



## سوال

میرا سوال درج ذیل حدیث کے متعلق ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تاکہ میں اسے تقسیم کر سکوں " نماز کے منکر یا تبارک نماز کو اللہ تعالیٰ پندرہ قسم کی سزائیں دے گا۔ جو تو اس کی زندگی میں اور تین اس کی موت کے وقت، اور تین قبر میں اور تین قیامت کے روز: دنیا میں سزا: 1- اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت مٹا ڈالتا ہے 2- اللہ تعالیٰ اس کی دعاء قبول نہیں کرتا 3- اس کی چہرے سے نیکی اور اصلاح کی علامتیں ختم ہو جاتی ہیں 4- زمین پر ساری مخلوق اس سے ناراض ہوتی ہے 5- اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی نیک عمل کا اجر و ثواب نہیں دیتا 6- اللہ تعالیٰ اسے مومنوں کی دعاء میں شامل نہیں کرتا 7- موت کے وقت سزائیں: 1- وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے 2- وہ بھوکا مرتا ہے 3- چاہے وہ سمند کا پانی بھی پی لے وہ پیسا سا ہی مرتا ہے 4- قبر میں سزائیں: 1- اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں 2- اللہ تعالیٰ اس پر انگاروں کی آگ جلاتا ہے 3- اللہ تعالیٰ اس پر ایک ازدھا مسلط کرتا ہے جسے شجاع اور اقرع کہتے ہیں، وہ فجر کی نماز ترک کرنے کی بنا پر فجر سے لیکر ظہر تک اسے ڈستار رہتا ہے، اور ظہر کی نماز ترک کرنے کی وجہ سے ظہر سے لیکر عصر تک اور عصر کی نماز ترک کرنے کی بنا پر عصر سے لیکر مغرب تک، اور مغرب کی نماز ترک کرنے کی وجہ سے مغرب سے لیکر عشاء تک، اور عشاء کی نماز ترک کرنے کی وجہ سے عشاء سے لیکر فجر تک ڈستار رہتا ہے، اور ہر ڈسنے کی وجہ سے وہ زمین میں ستر ہاتھ دھنس جاتا ہے 4- قیامت کے روز سزائیں: 1- اللہ تعالیٰ اس کے پاس سے روانہ کرینگے جو اسے چہرے کے بل کھینچے گا 2- اللہ تعالیٰ اس کی جانب غضب اور ناراضگی کی نظر سے دیکھیں گے جس کی بنا پر اس کے چہرے کا گوشت گر جائیگا 3- اللہ تعالیٰ اس کا حساب سختی کے ساتھ کرے گا اسے جہنم میں پھینکے گا

## جواب

الحمد لله

اول:

درج ذیل حدیث:

"جس نے بھی نماز میں سستی اور حقارت سے کام لیا، اللہ تعالیٰ اسے پندرہ قسم کی سزائیں دے گا، پندرہ دنیا میں، اور تین موت کے وقت، اور تین قبر میں، اور تین قبر سے نکلتے وقت...."

یہ حدیث موضوع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جھوٹ باندھا گیا ہے

فضیلۃ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجلہ "البحوث الاسلامیہ" میں کہتے ہیں:

اس پمفلٹ والے نے تبارک نماز کے متعلق جس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے کہ:

"تبارک نماز کو پندرہ قسم کی سزائیں دی جائیں گی"۔

یہ باطل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والی احادیث میں شامل ہوتی ہے

جیسا کہ علماء کرام میں سے حفاظ کرام نے مثلاً حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے "لسان المیزان" میں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ نے بیان کیا ہے



دیکھیں مجلیہ: الجوث الاسلامیہ (329/22).

اور اسی طرح مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی اس حدیث کے باطل ہونے کے متعلق فتویٰ جاری کیا ہے:

یہاں فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا قول ذکر کرنا بہتر معلوم ہے، مستقل فتویٰ اور اسلامی ریسرچ کمیٹی کے فتویٰ نمبر (8689) میں ہے:

"..... اور نماز اور تارک نماز کی سزا کے متعلق جو کچھ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کافی اور شافی ہے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

**یقیناً مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر ادا کرنی فرض کی گئی ہے النساء (103).**

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کے متعلق فرمایا:

**تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینکا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے... اللہ (42-43).**

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی صفات میں نماز کا ترک کرنا بھی ذکر کیا ہے

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

**"ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، چنانچہ جس نے بھی نماز ترک کی اس نے کفر کا ارتکاب کیا"**

سنن ترمذی حدیث نمبر (2621) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (1079) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر (2113) میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے

اس موضوع کے متعلق بہت سی آیات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں ترک نماز کو کفر قرار دیا ہے

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

یہ حدیث موضوع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھٹو ہے، کسی شخص کے لیے بھی اسے نشر کرنا اور لوگوں میں پھیلانا حلال نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کی موضوعیت اور من گھڑت ہونا بیان کرنا چاہے تو وہ نشر کر سکتا ہے، تاکہ لوگ اس کے متعلق جان سکیں اور انہیں بصیرت حاصل ہو

دیکھیں: فتاویٰ الشیخ ابن عثیمین جاری کردہ مرکز الدعوة والاارشاد وغیرہ قسیم سعودی عرب (6/1).

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے بھائیوں کو دعوت دینے اور ان کی اصلاح کرنے کی حرص رکھنے پر اجر و ثواب سے نوازے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو شخص بھی لوگوں میں خیر و بھلائی پھیلانے کی رغبت اور حرص رکھتا ہے، اور انہیں برائی اور شر سے بچانا اور ڈرانا چاہتا ہے، وہ اس چیز کے ساتھ کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحیح

احادیث میں کفالت اور ضعیف احادیث سے استغناء پایا جاتا ہے

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کامیابی سے نوازے، اور جنہیں آپ دعوت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور سب مسلمانوں کو طریق مستقیم کی طرف چلائے



والله اعلم.